

اپنے بچے کو ہر ممکن بہترین شروعتات دیجیئے۔

زچگی زندگی کا ایک نیا موڑ ہوتی ہے، ایک نئی شروعات کا آغاز۔ ایک صحت مند آغاز آپ کے بچہ کیلئے ضروری ہے۔ زچگی کے دوران کسی بھی طرح کا الکھل پینے سے احتراز کیجیئے۔ زچگی اور الکھل کے بارے میں اپنے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کیلئے پڑھیئے۔۔۔

زچگی کے دوران الکھل پینے سے کیا ہو سکتا ہے؟

زچگی کے دوران الکھل پینے سے آپکے بچہ کو مستقل پیدائشی خرابیاں اور دماغ کو نقصان بو سکتا ہے۔ اپنے بچے کی بر ممکن طور پر صحت مندی کیلئے الکھل پینا چھوڑ دیجیئے۔

محفوظ رہیئے۔ کوئی الکھل نہیں۔

کیا الکھل پینے کے لیے کوئی محفوظ وقت ہے؟

زچگی کے دوران الکھل پینے کا کوئی محفوظ وقت نہیں ہے۔ پوری زچگی کے دوران آپ کے بچہ کا دماغ نشوونما پاتا رہتا ہے۔ زچگی سے قبل الکھل ترک کر دینا سب سے بہتر ہے۔

حمل ٹہرنے سے پہلے اگر ایک دو بار الکھل پی لی گئی ہو تو اس بارے میں کیا ہدایات ہیں؟

بہت سے حمل بغیر ارادے کے ثہرتے ہیں۔ حمل ٹہرنے سے پہلے اگر الکھل کی معمولی مقدار پی لی گئی ہو تو اس سے آپ کے بچہ کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان کم ہو گا۔ آپ مرنو شی ترک کر کے اپنے بچہ کی مدد کر پہ کال کریں۔ Motherisk 1-877-FAS-INFO سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے۔

کیا کسی خاص موقع پر تھوڑی بہت مرنو شی کرنا درست ہے؟

سب سے پہلے ہے کہ زچگی کے دوران کوئی الکھل نہ پیا جائے۔ زچگی کے دوران کی مرنو شی مہفوظ سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلق کطھ علم ابھی تک نہیں ہے۔

کیا کچھ قسموں کے الکھل کم نقصان دہ ہوتے ہیں؟

کسی بھی طرح کے الکھل آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ (بیئر، کولرز، وائن یا اسپرٹ) کبھی کبھی یا مستقل اور زائد الکھل پینا آپ کے آنیوالے بچہ کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

کوئی بھی محفوظ وقت نہیں۔ نہ ہی محفوظ مقدار

محفوظ رہیئے: الکھل سے پاک زچگی اپنائیں۔



کیا ہے FASD

ایک اسٹرالیا بے جو کہ زچگی کو دورانِ الکھل کے استعمال سے FASD بونے والے نقصان کی سطح کو واضح کرتی ہے۔ اگر ایک حاملہ عورت الکھل پیتا رہتی ہے۔ تو اس کے بچہ کو بوگا:

- دماغی نقصان

- دیکھنے اور سنتنے کی مشکلات

- بُثیوں، باتھوں، ٹانگوں اور انگلیوں کی غیر مناسب بناؤٹ

- دل، گرددہ، جگر اور دوسرا اعظام کا نقصان

- آبستنہ نشونما

دماغی نقصان کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو نبایت سنجیدہ مشکلوں کا شکار رہے گا:

- سیکھنے میں

- یاد رکھنے میں

- سوچنے میں

- دوسروں کے ساتھ گھلانے مانے میں۔

کے ساتھ بڑے بونے والے بچے FASD کیا اپنی مشکلات سے نکل جاتے ہیں؟

کاشکار پچوں کے والدین FASD ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایک تاہیات FASD اور اساتذہ انکی مدد کیلیئے کر سکتے ہیں لیکن کی وجہ بوجا گا: FASD مشکل ہے نوجوانوں اور بالغان کو

- ذہنی دباؤ

- قانون کے ساتھ مشکل

- منشیات اور الکھل کے ساتھ مشکلات

- اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مشکلات

- ملازمت رکھنے میں مشکلات

اگر باپ الکھل پیتا ہے تو اس کا کیا بوجا؟

نہیں بوجا۔ لیکن زچگی سے پہلے FASD باپ کے الکھل پینے کی وجہ سے اور اس کے دوران باپ کو بھی ممکنہ حد تک صحت مند رہنا چاہیے۔

دوسرا کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟

ساتھی، اہل خاندان اور دوست معاونت اور حوصلہ مندی کے ذریعے حاملہ عورت کی مَرْ نوشی ختم کر سکتے ہیں۔



اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہیں؟
نصیحت یا معلومات کی تلاش ہے؟
مرے نوشی ترک کرنے کے لیے مدد درکار ہے؟

فوکنیجیئے:

- آپ کا صحیح مدد دینے والا
- آپ کا مقامی صحت یونٹ
- آپ کا مقامی دوستی مرکز
- ۰-۱۸۶۶-۷۹۷-۰۰۰۰ ٹیلی بیلتھ - اونٹاریو۔

مزید معلومات کے لیے پڑھ لے:

www.alcoholfreepregnancy.ca

**best start
meilleur départ**

by/par health **nexus** santé

آپ بھی ایک فرق لا سکتے ہیں